



## سوال

(52) مسجد کے پڑوس میں عورتوں کے لئے امام کی اقتداء

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے مسجد کی شمالی جانب ایک چادر بھاری شدہ احاطہ ہے جو مسجد سے ملحقہ۔ ہم رمضان میں نماز کی ادائیگی کے لیے اس احاطہ کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ امام کو نہ دیکھ سکیں گی، فقط لاؤڈ سپیکر سے امام کی متابعت کر سکیں گی۔؟

ابوالاحمد

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ایسی جگہ میں ان ہی نماز کی صحت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ جہاں سے نہ تو وہ امام کو دیکھ سکیں اور نہ ان لوگوں کو جو امام کے پیچھے ہیں۔ وہ تو صرف تکبیر ہی سن سکتی ہیں لہذا محتاط صورت یہی ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز ادا نہ کریں بلکہ اپنے گھروں میں ادا کریں۔ الایہ کہ مسجد میں کوئی ایسی جگہ مل جائے جو نماز ادا کرنے والوں کے پیچھے ہو۔ یا کسی خارجی مکان میں نماز ادا کریں جس میں وہ خود امام ہوں یا کوئی مقتدی امام ہو۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ دار السلام

ج 1

محدث فتویٰ